

## مس کیرج (Miscarriage) والی عورت کی نماز کا حکم

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر ایک عورت حمل مس کیرج ہوا ہو تو اس کے بعد آنے والا خون نفاس ہے یا استحاضہ اور نمازوں کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟

سائلہ: ایک بہن (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

اگر کسی عورت کو مس کیرج (Miscarriage) ہوا اور اگر ساقط ہونے والے بچہ کا کوئی عضو بن چکا تھا جیسے انگلیاں یا ناخن وغیرہ تو حمل گرنے کے بعد آنے والا خون نفاس کا ہے اور جب تک یہ جاری رہے گا نمازیں معاف ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہیں اور اگر بچہ کا کوئی عضو نہیں بنا تھا تو اگر خون تین دن اور تین رات تک جاری رہا اور اس سے پہلے کم از کم پندرہ دن پاکی کے گزر چکے تھے تو یہ حیض ہے اور اس میں بھی نماز میں معاف ہیں اور اگر یہ خون تین دن سے پہلے ہی بند ہو گیا تو یہ استحاضہ ہے اس میں وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگی جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے: وَالسَّقَطُ إِنْ ظَهَرَ بَعْضُ خُلُقِهِ مِنْ أَصْبَعٍ أَوْ ظَفَرٍ أَوْ شَعْرٍ وَلِدٍ فَتَصِيرُ بِهِ نَفْسَاءً. هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ خُلُقِهِ فَلَا نِفَاسَ لَهَا فَإِنْ أُمِكنَ جَعْلُ الْمَرْئِي حَيْضًا يُجْعَلُ حَيْضًا وَإِلَّا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ.

ساقط حمل کا اگر کوئی عضو ظاہر ہوا جیسے انگلیاں یا ناخن یا بال تو عورت نفاس والی ہوگئی اور اسی طرح ہی تبیین میں ہے اور اگر کوئی عضو ظاہر نہیں ہوا تو نفاس نہیں اگر اسے حیض کا خون بنانا ممکن ہے تو حیض ہے وگرنہ استحاضہ۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السادس فی الدماء المختصۃ بالنساء، الفصل الثانی،

ج 1 ص 37)

اور بہار شریعت میں ہے: حمل ساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا ہے جیسے ہاتھ، پاؤں یا انگلیاں تو یہ خون نفاس ہے۔ ورنہ اگر تین دن رات تک رہا اور اس سے پہلے پندرہ دن پاک رہنے کا زمانہ گزر چکا ہے تو حیض ہے اور جو تین دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا ابھی پورے پندرہ دن طہارت کے نہیں گزرے ہیں تو استحاضہ ہے۔

(بہار شریعت ج 1 حصہ 2 ص 377)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date:12-9-2018

## The ruling of the salāh for a woman who has had a miscarriage

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following issue: If a woman has had a miscarriage, then is the blood which comes out regarded as postnatal bleeding or irregular vaginal bleeding, and what will the ruling be regarding salāh?

Questioner: A sister from U.K.

### ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

If a woman has had a miscarriage and if a particular body part of the child that was miscarried had formed for example, fingers, nails, etc then the blood which comes out after the miscarried child is postnatal bleeding, and salāh is forgiven for as long as this continues to flow. The maximum time limit for this is forty days, and if no body part of the child had formed and the bleeding continued for three days and three nights, and also before this there was a minimum duration of purity of at least fifteen days, then this is the blood of menses, and salāh is also forgiven in this. However, if the bleeding actually stopped three days beforehand, then this is irregular vaginal bleeding; such a woman will have to perform Wudū' and pray salāh. Just as it is stated in Fatāwā Hindiyyah,

"وَالسَّقَطُ إِنْ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ مِنْ أَصْبُعٍ أَوْ ظِفْرٍ أَوْ شَعْرٍ وَلِدٍ فَتَصِيرُ بِهِ نَفْسَاء. هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَلَا نِفَاسَ لَهَا فَإِنْ أَمَكْنَ جَعَلَ الْمَرْئِي حَيْضًا يُجَعَلُ حَيْضًا وَإِلَّا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ"

"If any body part of the miscarried child is evident, such as fingers, nails, hair, etc then the woman will be regarded as one whose bleeding is postnatal; it is stated in a like manner in Tabyīn. However, if any body part is not evident, then it is not postnatal bleeding. If it possible to regard it as menses, then it will be regarded as so, otherwise as irregular vaginal bleeding."

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, ch 2, part 6, pg 37]

Moreover, it is stated in Bahār-e-Sharī'at that if a female suffered a miscarriage and some limbs of the child have been formed, such as the hands, feet or fingers etc. then this bleeding will be regarded as nifās [postnatal], otherwise if it remained for 3 days and nights and 15 days of purity have passed before this, then it is regarded as menses. However, if it stopped before the end of 3 days or if the full 15 day purification period has not as yet finished, then it is regarded as irregular vaginal bleeding.

[Bahār-e-Sharī'at, vol 1, part 2, pg 377]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Haider Ali